

تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیٹر آفس
جامعہ ملیہ اسلامیہ
نئی دہلی
23 دسمبر 2020
پریس ریلیز

جامعہ میں آن لائن بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد

شعبہ انگریزی ، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے زیر اہتمام شعبیات اور ہندوستانی ادب کے موضوع پر ایک آن لائن کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ یہ کانفرنس 21-22 دسمبر 2020ء کو منعقد ہوا۔ اکیڈمک اینڈ ریسرچ کوآپریشن کے فروغ ، اسکیم برائے وزارت تعلیم ، حکومت ہند کی مدد سے ، کانفرنس کا اہتمام مشی گن اسٹیٹ یونیورسٹی ، امریکہ کے اشتراک سے کیا گیا تھا۔

پروفیسر نشاط زیدی ، سر براہ شعبہ انگریزی ، جامعہ ملیہ اسلامیہ، اور کانفرنس کی چیئر نے خطبہ استقبالیہ پیش کر کے کانفرنس کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کانفرنس کے انعقاد اور مقصد پر گفتگو کی اور بتایا کہ اس طرح کی اکادمی سرگرمیاں اسپارک اسکیم کے تحت یونیورسٹی کے بڑے تعلیمی تعاون کا حصہ ہیں، انہوں نے کہا اس کا آغاز 2019 میں ہوا تھا ، جس کا خاص مقصد ہندوستانی یونیورسٹیوں میں عمرانیات و لسانیات کے بارے میں ایک نئے ڈسکورس کا آغاز کرنا تھا۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے تمام دانشوروں اور اسکالرز کو خوش آمدید کہتے ہوئے ، ڈیجیٹل ہیومنٹیشن کے ابھرتے ہوئے شعبے کی اہمیت اور ہندوستان میں تحقیقات کے مستقبل کے لئے اس کے امکانات پر روشنی ڈالی۔

کانفرنس کی وضاحت کرنے والے موضوعات کی تفصیل دیتے ہوئے ، مشی گن اسٹیٹ یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ، ڈاکٹر اے سیون پیو نے ہندوستان جیسے کثیر لسانی جگہ میں فروغ پانے کے لئے ڈیجیٹل ہیومنٹیشن پریکٹس کے لئے ضروری تعاون سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔

کلیدی خطبہ پروفیسر امردیپ سنگھ نے پیش کیا۔ انہوں نے ہنری لوئس ڈیرزو کی شاعری کے ڈیجیٹل ایڈیشن کے بارے میں بات کی۔ اس موقع پر پروفیسر نرملا مینن ، مائیکل فالک ، پروفیسر روپیکا رسام ، یوسف سعید ، ریما چودھری، پرتھاسارتهی بھومک، ڈیپشری دتارائے وغیرہ نے بھی گفتگو کی اور زبان و ادب کی باریکیوں نیز عصر حاضر میں مسائل اور چیلنجز سے کیسے ابھرا جائے اس پر روشنی ڈالی۔

دو روزہ آن لائن بین الاقوامی کانفرنس میں ڈیجیٹل آرکائیوگ ، کمپیوٹنگ اور ٹکنالوجی کے مختلف پہلوؤں پر ریسرچ سیر حاصل گفتگو ہوئی اور بڑی تعداد میں اہل علم و ریسرچ اسکالرز نے شرکت کی۔

احمد عظیم
پی ار او-میڈیا کوآرڈینیٹر